



سوال

(422) تجارتی مال کی زکاة

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

کیا تجارتی مال کی زکاة میں وہی مال بطور زکاة دیا جائے، یا اس مال کی قیمت لگا کر نقدی کی صورت میں ادا کی جائے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس مسئلہ میں اہل علم میں کچھ اختلاف ہے۔ حنفی اور بہت سے دوسرے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ قیمت کی صورت میں زکاة ادا کرنا جائز ہے۔ یعنی سارے مال کی قیمت لگائی جائے پھر اسی کے حساب سے نقد زکاة ادا کی جائے۔ جبکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ اسی مال تجارت میں زکاة ادا کرنا جائز ہے۔ مگر معمول پہلی بات ہی ہے۔

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

## احکام و مسائل، خواتین کا انسائیکلو پیڈیا

صفحہ نمبر 341

محدث فتویٰ